



لوگو! سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے

عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو لوگ آپ کی جانب دوڑ پڑے۔ ہر طرف شور تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ تین بار دوہرایا دیکھنے کے لیے میں بھی لوگوں کی بھیڑ میں داخل ہوا۔ جب دھیان سے آپ کا چہرہ دیکھا تو میرے لیے یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اس دوران میں نہ آپ کو جو پہلی بات کہتے ہوئے سنی، وہ یہ تھی: "لوگو! سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے"

[صحیح]

جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کو دیکھا، تو آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ آپ کی طرف دوڑ کر جانے والوں میں عبداللہ بن سلام بھی شامل تھے۔ یہودی تھے آپ کو دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے کیونکہ اس سے نور، جمال اور سچی ہیبت آشکارا تھی۔ اس دوران انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی بات سنی، وہ یہ تھی کہ آپ نے لوگوں کو کچھ ایسے اعمال کی ترغیب دی، جو دخول جنت کا سبب ہیں جیسے: 1- سلام عام کرنا اور بہت زیادہ سلام کرنا۔ 2- کھانا کھلانا۔ شکل صدقہ کی ہے، وہ دیکھنے کی ہے یا ضیافت کی ہے۔ 3- رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ رشتہ داری والد کی جانب کی ہے یا والدہ کی جانب کی ہے۔ 4- رات کے وقت، جب لوگ سو رہے ہوں، جاگ کر نفل نماز پڑھنا۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/5520>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

